



سوال

(454) حجر اسود ابتداء کہاں سے آیا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حجر اسود ابتدائی کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر مسجد کے لیے اس کی بنیادوں کی نشاندہی کی گئی گویا ظاہر اعمارت موجود نہ تھی تو اس وقت حجر اسود کہاں تھا؟ کیا انھوں نے بھی دیوار میں ہی نصب کیا تھا؟ (ڈاکٹر عبید الرحمن چوہدری، لاہور) (۱۷ اپریل ۱۹۹۸ء) (۲۰ مئی ۲۰۱۱ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بعض روایات کے مطابق اس کی آمد جنت سے ہے۔ (صحیحہ الابانی صحیح الترمذی: ۸۷۷ وقال الترمذی: ہذا حدیث حسن صحیح) اگرچہ بعض میں ضعف ہے لیکن دیگر بعض قابل استدلال ہیں۔ (فتح الباری: ۳/۳۶۲)

بلکہ کعبہ کی اساس موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر عمارت کو استوار کیا۔ (ملاحظہ ہو تاریخ الکعبۃ المعظمۃ) تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہی حجر اسود کا وجود زمین پر قائم رہا ہے۔ اگرچہ کیفیات کی وضاحت مشکل امر ہے۔ چاہے وہ دور ابراہیمی میں ہو یا اس سے قبل۔

ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 352

محدث فتویٰ